

اے اللہ! اس کتاب کی اشاعت میں جن لوگوں نے جس اعتبار سے حصہ لیا ہو ان سب کو قبول فرما، اور ان کی جائز مرادیں پوری فرما۔ آمین

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ - آمین

- ہر دعائے یقین اور استحضر کے ساتھ پڑھیں۔
- دعاؤں کا فائدہ فرائض کے اہتمام پر موقوف ہے، کوئی بھی نفل عمل فرائض کا بدل نہیں ہو سکتا اس لئے تمام فرائض کا اہتمام نہایت ضروری ہے۔

نوٹ: جو اللہ کا بندہ اس کتاب کو طبع کرانا چاہے یا کسی زبان میں اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو مرتب کی جانب سے بغیر گھٹائے بڑھائے اس کو شائع کرنے کی مکمل اجازت ہے۔

اللہ کی پناہ

استعاذہ کی دعائیں

یعنی آنے والی مصیبتوں، بیماریوں اور بلاؤں سے بچاؤ کے لئے

مؤمن کا قلعہ

(احادیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ترجمہ اور حوالہ کے ساتھ)

ترتیب

محمد بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما
محمد بن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما

معافی معانگنے کی عادت ڈالنا ہے اور اس کا کلمہ ”اَسْتَغْفِرُ اللہَ“ ہے۔ یہ استغفار جہاں گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا ہے وہیں اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہونے کا باعث بھی ہے اور اس کے نتیجہ میں نبوی برکات بھی شامل ہیں اور مشکلات کا آسان ہونا اور مصیبتوں کا دور ہو جانا بھی شامل ہے۔ یہ تین چیزیں تو وہ ہیں جو ہو چکی ہوتی ہیں یعنی نعمت و مصیبت اور معصیت جن کے لئے شکر، صبر اور استغفار دیا گیا ہے، جو تھی چیز آئندہ پیش آنے والی باتیں ہیں جو اب سے لے کر موت اور موت سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک طویل زمانہ پر پھیلی ہوئی ہیں۔ ان سے بچاؤ اور حفاظت کے لئے حضور ﷺ نے اپنی امت کو ”استعاذہ“ کی دعاؤں کا تحفہ دیا ہے جن میں دنیا و آخرت کی ہر چھوٹی بڑی برائی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے جن باتوں سے پناہ مانگی ہو وہ کوئی معمولی چیز نہیں، بلکہ ان کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ لہذا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اسے اپنی عادت بنا لے کہ ہر خوشی پر الحمد للہ اور ہر رنج پر ان اللہ اور ہر غلطی پر استغفار کے ساتھ ساتھ استعاذہ کی دعاؤں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتا رہے۔

بہت اہم نصیحت :

بڑھنے والوں کی سہولت کی خاطر ان دعاؤں کو سات منزلوں پر تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ جو تمام دعائیں روزانہ نہ پڑھ سکتا ہو وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا پڑھ کر ایک ہفتہ میں انہیں ختم کر لے۔

اللہ رضا کا طاہر : محمد یونسؑ بالنبیوریؑ

عَرَضِ مُرْتَبِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

اَمَّا بَعْدُ !

روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ہی باتیں ہر روز ہماری مرضی و منشاء کے موافق ہو جاتی ہیں مثلاً کسی شخص سے ملنے جانے کا ارادہ کیا تھا وہ راستہ ہی میں مل گیا، پیاس لگ رہی تھی فریج کھولا تو پانی کی ٹھنڈی بوتل مل گئی ایسی سب باتیں باعث خوشی ہوتی ہیں۔ ان پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی عادت ڈالنا چاہئے۔ شکر کا کلمہ ”الْحَمْدُ لِلّٰہ“ ہے جسے اللہ کے رسول ﷺ نے افضل ترین دعا قرار دیا ہے۔ اسی طرح کتنی ہی باتیں ہماری مرضی اور پسند کے خلاف ہو جاتی ہیں جن سے ہمیں رنج ہوتا ہے۔ جیسے کہ گرمی لگ رہی تھی پنکھے یا کولر کا سوئچ کھولا تو معلوم ہوا بجلی کا کرنٹ ہی نہیں ہے یا بس پکڑنے لگے اور وہ ہمارے پہونچتے پہونچتے ہی نظروں کے سامنے چھوٹ گئی۔ ایسی تمام باتوں پر صبر کی عادت ڈالنا ہے اور صبر کا کلمہ ہے ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ رَاٰجِعُوْنَ“ شکر ادا کرنے پر نعمتوں میں اضافہ کا وعدہ ہے اور صبر کرنے پر خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جانے کی خوشخبری ہے۔

پھر روزانہ کوئی نہ کوئی خطا ایسی سرزد ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور پسند کے خلاف ہوتی ہے۔ وہ چاہے فراض و واجبات میں کوتاہی ہو یا ترک سنت ہو یا کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ ہو ایسے ہر عمل پر توبہ و استغفار اور اللہ تعالیٰ سے

﴿٣﴾ شياطين اور ان کے وساوس سے اللہ کی پناہ
رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ الشَّيْطَانِ
وَاعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْا

(المؤمنون ٩٤)

ترجمہ: اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے پھیلنے سے اور میرے رب میں
مجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے بھی کہ شیطان میرے پاس آویں۔

﴿٤﴾ متکبر کے شر سے اللہ کی پناہ
وَقَالَ مُوسٰى اِنِّىْ عُدْتُ بِرَبِّىْ وَ
رَبِّكُمْ مِّنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ
بِیَوْمِ الْحِسَابِ

(مؤمن ٢٣ ٢٧)

ترجمہ: موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا میں اپنے اور تمہارے رب
کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس تکبر کرنے والے شخص (کی برائی سے)
جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔

يوم الجمعة پہلی منزل جمعہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿١﴾ جہالت سے اللہ کی پناہ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِیْنَ

(البقرہ: ٦٤)

ترجمہ: میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں ایسا جاہل ہونے سے

﴿٢﴾ بے تکی دعاؤں سے اللہ کی پناہ
رَبِّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْئَلَكَ مَا لَیْسَ
لِیْ بِہٖ عِلْمٌ وَّ اِلَّا تَغْفِرْ لِّیْ وَ تَرْحَمْنِیْ
اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِیْنَ

(ہود ٣٤)

ترجمہ: اے میرے پالنہار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے
وہ مانگوں جس کا مجھے علم ہی نہ ہو اگر تو مجھے نہ بخشے گا اور تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا
تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

ترجمہ: آپ کہتے کہ آدمیوں کے مالک، آدمیوں کے بادشاہ، آدمیوں کے معبود کی پناہ لیتا ہوں وسوسہ ڈالنے والے بیچھے ہٹنے والے (شیطان) کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ (وسوسہ ڈالنے والا) جنات میں سے ہو یا آدمیوں میں سے ہو۔

﴿۷﴾ اچانک کی برائی سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فُجَاءَةِ الشَّرِّ
ترجمہ: اے اللہ میں اچانک کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں
کتاب الاذکار ص ۱۰

﴿۸﴾ کفر و فقر و عذاب قبر سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ
وَالْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ
ترجمہ: اے اللہ میں کفر اور محتاجی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے میں
آپ کی پناہ مانگتا ہوں آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
(ابوداؤد و انظر صحیح ابن ماجہ ۳/۱۲۲)

﴿۵﴾ تمام مخلوق کی برائی سے اللہ کی پناہ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲
مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثِ
فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵
ترجمہ: آپ کہتے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کی برائی سے اور
اندھیری رات کی برائیوں سے جب وہ رات آجائے اور گرہوں میں پڑھ پڑھ کر
پھونکنے والیوں کی برائی سے اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرنے لگے

﴿۶﴾ شیطان خناس کے شر سے اللہ کی پناہ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ إِلَهِ
النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝۴ الَّذِي
يُوسَّسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

﴿۱۱﴾ نیچے کی سمت سے ہلاک ہونے سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ
أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي۔

ترجمہ : اے اللہ میں آپ کی عظمت کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ
ہلاک کیا جاؤں میرے نیچے سے۔ (بخاری ابوداؤد و ترمذی صحیح ابن ماجہ ۲/۳۳۲)

﴿۱۲﴾ غم و عجز و سستی و بخل و قرض اور لوگوں کے دباؤ سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ،
وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَ
أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ۔

ترجمہ : اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں فکر اور رنج سے اور میں آپ کی پناہ
مانگتا ہوں کم ہمتی اور سستی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی اور بخل
سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ اور لوگوں کے دبانے سے۔
(بخاری ابوداؤد و ترمذی صحیح ابن ماجہ ۲/۳۳۲)

﴿۹﴾ اپنے نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَمِنْ
شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرِّكَهٖ وَأَنْ أَقْتَرِفَ
عَلَى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجْرَهُ إِلَى مُسْلِمٍ۔

ترجمہ : اے اللہ میں آپ کے ذریعے میرے نفس کی برائی سے اور شیطان کی برائی سے
اور اس کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں اور اس سے پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی
برائی کروں جس کا وبال میرے نفس پر پڑے، یا کسی مسلمان کو کوئی برائی پہنچاؤں۔
(بخاری ابوداؤد و ترمذی صحیح ابن ماجہ ۲/۳۳۲)

﴿۱۰﴾ کئے گئے برے اعمال کے وبال سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ
مَا صَنَعْتُ۔

ترجمہ : اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ان تمام بُرے کاموں کے
وبال سے جو میں نے کئے ہیں۔ (بخاری ۱۱/۹۷-۹۸)

﴿۱۵﴾ رات، دن اور زمین و آسمان کے فتنوں سے اللہ کی پناہ
 اَعُوذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ
 التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ مِّنْ
 شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ فِيهَا
 وَشَرِّ مَا ذَرَأَ فِي الْأَرْضِ وَشَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ
 فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
 إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَنُ۔

ترجمہ: میں اللہ کی کریم ذات کی اور اللہ کے ان کامل تاثیر کلمات کی پناہ مانگتا
 ہوں جن کلمات سے آگے نہیں بڑھتا کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص ان تمام چیزوں
 کی برائی سے جو آسمان سے اترتی ہیں اور ان تمام چیزوں کی برائی سے جو آسمان میں
 چڑھتی ہیں اور ان تمام چیزوں کی برائی سے جو زمین میں پھیلی ہیں اور ان تمام چیزوں کی
 برائی سے جو زمین سے نکلتی ہیں، اور رات اور دن کے فتنوں سے اور رات اور دن میں
 کھٹکھٹانے والوں سے، مگر وہ کھٹکھٹانے والا جو خیر کے ساتھ کھٹکھٹاتا ہو، اے
 بے حد مہربان۔ (موطا امام مالک)

﴿۱۳﴾ نفس اور ہر جانور کی برائی سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَ
 مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ اَنْتَ اِخْذُ بِنَاصِیَتِهَا
 اِنَّ رَبِّیْ عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں میرے نفس کی
 برائی سے اور ہر اس جانور کی برائی سے جس کی پیشانی آپ کے
 قبضے میں ہے بیشک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔
 (رواہ ابن السنی و ابوداؤد عن بعض بنات النبی صلی اللہ علیہ وسلم)

﴿۱۴﴾ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ
 اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ
 الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ۔

ترجمہ: میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو خوب سننے والا ہے بڑا
 جاننے والا ہے مردود شیطان سے۔ ترمذی

أَعْلَمُ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَبَرَّأُ وَذَرَأٌ.

ترجمہ: میں اللہ کی عظیم ذات کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس سے کوئی چیز بڑی نہیں ہے (اور پناہ مانگتا ہوں) اللہ کے ان کامل تاثیر کلمات کی جن سے آگے نہیں بڑھتا ہے کوئی نیک اور نہ کوئی برا شخص، (اور میں پناہ مانگتا ہوں) اللہ کے تمام اچھے ناموں کی جو مجھے معلوم ہیں اور جو مجھے معلوم نہیں ہیں ان تمام چیزوں کی برائی سے جو اس نے پیدا کی اور ٹھیک بنائی اور پھیلانی۔
(موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ)

یوم السبت [دوسری منزل] سنیچر

﴿۱۸﴾ دُنْ كَ شَرِّ سَيِّئَاتِ اللَّهِ كِي پِنَاهِ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِیْهِ
وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

ترجمہ: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس دن اور اس کے بعد کے شر سے۔
(حصن حصین، پرنور دعا ص ۳۲)

﴿۱۹﴾ تَمَامُ مَخْلُوْقَاتِ كِي بَرَاءِیْ سَيِّئَاتِ اللَّهِ كِي پِنَاهِ
اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ.

﴿۱۶﴾ شَیْطَانِ كَ شَرِّ اَوْرَاسِ كَشْرِكِ سَيِّئَاتِ اللَّهِ كِي پِنَاهِ
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الَّذِیْ یُمْسِكُ السَّمَاۤءَ اَنْ تَقَعَ
عَلٰی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَ
ذَرَأٌ وَمِنْ شَرِّ الشَّیْطَانِ وَشَرِّ كِه.

ترجمہ: پناہ لیتا ہوں اللہ کی جس نے آسمان کو روک رکھا کہ وہ زمین پر گرے مگر اس کی اجازت سے مخلوق کی برائی سے اور جو پھیلی ہے اور شیطان کے شر اور اس کے شرک سے۔
(الدعاء ۹۵۴، ابن السنی ۶۶، مجمع ۱۱۹)

﴿۱۷﴾ تَمَامُ مَخْلُوْقَاتِ كِي بَرَاءِیْ سَيِّئَاتِ اللَّهِ كِي پِنَاهِ
اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللَّهِ الْعَظِیْمِ الَّذِیْ لَیْسَ شَیْءٌ
اَعْظَمَ مِنْهُ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ
الَّتِیْ لَا یَجَاوِزُھُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ وَبِاسْمَاءِ اللَّهِ
الْحُسْنٰی كَلِّھَا مَا عَلِمْتُ مِنْھَا وَمَا لَمْ

السُّوءِ وَمِنْ شَرِّ دَابَّةٍ أَنْتَ اخِذُ بِنَاصِيَتِهَا
إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ -

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ہر ضدی سخت انسان سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر شرکش شیطان سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں برائی لانے والے فیصلہ کی برائی سے اور آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسے زمین پر چلنے والے سے جس کی پیشانی آپ پکڑے ہوئے ہیں۔ یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ (سیدھا راستہ دکھانے والا ہے) شہناہل کبریٰ بحوالہ مستطرف جزا ص ۲۸

اللَّهُمَّ ارْنِي آعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاعُوذُ
بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاعُوذُ بِكَ مِنْ أَرْدَلِ
الْعُمُرِ، وَاعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا
وَعَذَابِ الْقَبْرِ -

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بزدلی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں بخلی سے اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں نکمی عمر سے (یعنی عمر کا ناکارہ حصہ) اور میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں دنیا کے فتنے اور عذاب قبر سے۔ (بخاری و ترمذی)

ترجمہ: میں اللہ کے کامل تاثیر کلمات کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کی برائی سے۔
(ابوداؤد، ترمذی، صحیح ابن ماجہ ۲/۲۳۲)

﴿۲۰﴾ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
ترجمہ: میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے
(حسن حصین ص ۶۹)

﴿۲۱﴾ ڈر اور خوف سے اللہ کی پناہ
أَعُوذُ بِاللَّهِ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ
ترجمہ: میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس سے جس سے میں ڈر رہا ہوں
اور خوف زدہ ہو رہا ہوں۔ (شہناہل کبریٰ بحوالہ مستطرف جزا ص ۲۸)

﴿۲۲﴾ تقدیر کی برائی سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ ارْنِي آعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ جَبَّارٍ
عَنِيدٍ وَشَيْطَانٍ مَرِيدٍ وَمِنْ شَرِّ قَضَاءٍ

وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ .

ترجمہ : اے میرے پروردگار میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے ۔
(صحیح مسلم)

﴿۲۷﴾ قَدْ أَسَى غُلَطًى مِثْلَ مَبْتَلٍ مِنْهُ سَأَلَ اللَّهَ فِي پَنَاهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ
أَوْ أَعْتَدِيَ أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ أَوْ أَكْسِبَ
خَطِيئَةً أَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهُ .

ترجمہ : اے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں کہ خود کسی ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے یا کسی پر خود زیادتی کروں یا کوئی میرے اوپر زیادتی کرے یا قصداً کسی غلطی میں مبتلا ہوں یا کسی ایسے گناہ میں جس کو تو نہ بخشے۔ (مسند امام احمد مستدرک حاکم، معجم الطبرانی الکبیر)

﴿۲۸﴾ تَمَامُ مَخْلُوقٍ إِلَى بَرَاءَتِهِ مِنَ اللَّهِ فِي پَنَاهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَبِكَلِمَاتِكَ
الَّتِي آمَنَ مِنْ شَرِّ مَا أَنْتَ آخِذٌ بِبَنَاصِيَتِهِ

﴿۲۹﴾ هَرْدَنَ كَثْرَتِهِ مِنَ اللَّهِ فِي پَنَاهِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي
هَذَا الْيَوْمِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ .

ترجمہ : اے اللہ جو برائی اس دن میں ہے اور جو اس کے بعد ہے اس سب سے تیری پناہ لیتا ہوں ۔
(صحیح مسلم)

﴿۳۰﴾ سَخَتْ كَاهِلِي أَوْ سَخَتْ بُرْهَاطِي مِنَ اللَّهِ فِي پَنَاهِ
رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ
الْكِبَرِ .

ترجمہ : اے میرے رب میں تیری پناہ لیتا ہوں کاهلی سے اور سخت بڑھاپے سے ۔
(صحیح مسلم)

﴿۳۱﴾ عَذَابُ جَهَنَّمَ أَوْ عَذَابُ قَبْرِهِ مِنَ اللَّهِ فِي پَنَاهِ
رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ فِي النَّارِ

ترجمہ: اے اللہ! میں (تیری صفات جلالیہ سے تیری ہی جمالی صفات کی پناہ لیتا ہوں) تیری رضا مندی کی تیرے غصہ سے پناہ لیتا ہوں اور تیری معافی کی تیرے عذاب سے پناہ لیتا ہوں (غرضیکہ) تجھ سے تیری ذات ہی کی پناہ لیتا ہوں، میں تیری پوری تعریف نہیں کر سکتا بس تو ایسا ہی ہے جیسا خود تو نے اپنی تعریف فرمائی۔
(صحیح مسلم)

جہنم سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِئِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ
وَمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ
ترجمہ: اے رب جبرئیل (علیہ السلام) و میکائیل (علیہ السلام) و اسرافیل (علیہ السلام)
اور محمد ﷺ کے میں تجھ سے عذاب و نزع سے پناہ کا طالب ہوں۔

لغزش سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَضِلَّ أَوْ
أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری ذات بابرکات اور تیرے پورے پورے کلمات کے وسیلہ سے تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضہ میں ہے۔ (ابوداؤد)

ہر چیز کی برائی سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ
أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ
ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کی برائی سے جو تیرے قبضہ میں ہے۔
(صحیح مسلم)

اللہ کے غصہ سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ
وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا
أَتَنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

ہے میں بھی ان سب تیسری پناہ لیتا ہوں۔ (حصن حصین)

﴿۳۵﴾ زندگی اور موت کے فتنے سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَآْثِمِ وَالْمَغْرَمِ

ترجمہ : اے اللہ میں تیسری پناہ لیتا ہوں جہنم کے عذاب اور تیسری پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب اور تیسری پناہ لیتا ہوں اس دجال سے جس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور تیسری پناہ لیتا ہوں زندگی اور موت کے وقت کے فتنے سے اور تیسری پناہ لیتا ہوں گناہ سے اور تاوان اٹھانے سے۔ (بخاری ص ۱)

﴿۳۶﴾ معاملات کی پریشانی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَسْوَاسِ الصَّدْرِ

أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ

ترجمہ : اے اللہ میں تیسری پناہ لیتا ہوں کہ میں کسی کو بہکاؤں یا مجھے کوئی بہکائے یا میں خود لغزش کھاؤں یا کسی دوسرے کو لغزش دوں، خود کسی پر ظلم کروں یا مجھ پر کوئی ظلم کرے اور خود کسی کے ساتھ نادانی کی بات کروں یا کوئی دوسرا میرے ساتھ کرے۔ (ابوداؤد، ابی یوسف)

﴿۳۷﴾ ہر برائی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ

ترجمہ : اے اللہ تیسری پناہ لیتا ہوں ہر برائی سے جو میں جانتا ہوں اور جو میں نہیں جانتا۔ (حصن حصین)

﴿۳۸﴾ اللہ کی عجیب پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ

ترجمہ : اے اللہ جن جن برائیوں سے تیرے نیک بندوں نے پناہ لی

وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا.

ترجمہ: اے اللہ جو تو نے ہم کو دیا ہے میں اس کے شر سے تیری پناہ لیتا ہوں اور جو ہم کو نہیں دیا اس کے شر سے بھی تیری پناہ لیتا ہوں۔ (مجمع الزوائد، الادب المفرد)

﴿۳۹﴾ دشمنوں کے مکر و فریب سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِمْ

ترجمہ: اے اللہ ہم ان کے مکر سے تیری پناہ لیتے ہیں۔ (ابوداؤد، نسائی، مستدرک)

﴿۴۰﴾ ناجائز ٹیکس اور مفت کا تاوان بھرنے سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ،

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں عجز اور کاہلی اور سخت بڑھاپے اور مفت کا تاوان بھرنے اور گناہ سے۔ (بخاری و مسلم)

﴿۴۱﴾ مال داری اور فقیری کی آزمائشوں سے اللہ کی پناہ

وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دل کے وسوسوں سے اور معاملات کی پریشانی اور قبر کے فتنے سے۔ (بیہقی، ابن ابی شیبہ)

یوم الاحد [تیسری منزل] اتوار

﴿۳۷﴾ رات، دن، ہواؤں کے ساتھ آنے والی آفتوں کے شر سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي

الَّيْلِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ

شَرِّ مَا تَهْبُ بِهِ الرِّيحُ.

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ہر اس آفت کی برائی سے جو رات

میں آئے اور ہر اس آفت کی برائی سے جو دن میں آئے اور ہر اس آفت کی

برائی سے جو ہواؤں کے ساتھ اڑتی ہے (جیسے آدمی اڑھاتے ہیں درخت ٹوٹ جاتے ہیں جھونپٹیاں برباد ہو جاتی ہیں)۔ (بیہقی، ابن ابی شیبہ)

﴿۳۸﴾ اللہ کی دی ہوئی اور روکی ہوئی چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُعْطِيتَنَا

وَسَيِّئِ الْأَسْقَامِ -

ترجمہ: اے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں سخت دل ہونے اور غفلت اور حد درجہ احتیاج اور ذلت خواری سے اور تیری پناہ لیتا ہوں محتاجی سے کفر، نافرمانی اور ہٹ دھرمی سے اور شہرت اور دکھاوے کے لئے عمل کرنے سے اور تیری پناہ لیتا ہوں بہرے اور گونگے ہونے سے جسم پر سفید داغ پڑنے سے دیوانگی اور کوڑھ سے اور بقیہ جتنی خراب خراب بیماریاں ہیں سب سے۔ (ابوداؤد، ابن جہان، المستدرک للحاکم)

(۳۳)

گمراہی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ بِعِزَّتِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْ تَضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَالْجَنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ -

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تیری عزت کے صدقہ میں معبود کوئی نہیں صرف تو ہے اس بات سے کہ تو مجھ کو گمراہ کر دے۔ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے کبھی فنا ہونے والا نہیں اور (تیسرے سوا) جنات ہوں یا انسان سب ایک دن مرنے والے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور اس کی آزمائش سے اور قبر کی آزمائش اور اس کے عذاب سے اور مالدار کی آزمائش کے شر سے اور فقیر کی آزمائش کے شر سے (یعنی مال کی آزمائش میں پڑو اور تیرے غلہ کی) (بخاری و مسلم)

(۳۴)

خطرناک روحانی اور جسمانی بیماریوں سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعِيْلَةِ وَالذَّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكَفْرِ وَالْفُسُوقِ وَالشَّقَاقِ وَالسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْبَرَصِ وَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمَلْتُ
وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ.

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اُس عمل کے برے نتیجہ سے جو میں نے کیا ہے اور اس سے بھی جو میں نے نہیں کیا۔ (مسلم، ابوداؤد، نسائی)

﴿۲۷﴾ زوالِ نعمت عافیت کے رخ پھیسے ناگہانی عذاب اور غضب الہی کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ
عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيعِ سَخَطِكَ.

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تیری موجودہ نعمت جاتی ہے اور تیری عافیت مجھ سے اپنا رخ پھیر لے اور تیرے ناگہانی عذاب سے (کہ پہلے توبہ کی توفیق نہ ملے) اور تیرے تمام غصے کے اسباب سے۔ (مسلم، ابوداؤد)

﴿۲۸﴾ کان، آنکھ، زبان، دل اور منی کے شر سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَمِنْ
شَرِّ بَصَرِي وَمِنْ شَرِّ لِسَانِي وَمِنْ شَرِّ

﴿۲۹﴾ آزمائش کی سختی اور بدبختی کی گرفت دشمنوں کے ہنسنے سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَ
دَرْكِ الشَّقَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ
الْأَعْدَاءِ.

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں آزمائش کی سختی اور بدبختی کی گرفت اور اس بات سے کہ مقدرات کے فیصلوں سے میرے دل میں تنگی پیدا ہو اور دشمنوں کے ہنسی اڑانے سے (بخاری)

﴿۳۰﴾ علم اور جہل کے شر سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَلِمْتُ
وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْلَمْ.

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ان چیزوں کی برائی سے جن کو میں جانتا ہوں اور ان کی برائی سے بھی جن کو میں نہیں جانتا۔ (نسائی، مصنف ابن ابی شیبہ)

﴿۳۱﴾ اعمال کے بُرے نتیجہ سے اللہ کی پناہ

نیچے آگروں۔ اور تیری پناہ لیتا ہوں پانی میں ڈوب جانے یا آگ وغیرہ میں جل جانے اور سخت بڑھاپے سے۔ اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ مرتے وقت شیطان مجھ کو ورغلائے اور بہکائے اور تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ جہاد میں بیٹھ موڑ کمر روں۔ اور تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ زہریلے جانوروں کے ڈسنے سے مروں۔ (ابوداؤد، نسائی)

﴿۵۰﴾ ناپسندیدہ اخلاق، بُرے اعمال نفسانی خواہشات اور تمام بیماریوں کے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ مُّنْكَرَاتِ الْاَخْلَاقِ
 وَالْاَعْمَالِ وَالْاَهْوَاءِ وَالْاَدْوَاءِ۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ناپسندیدہ اخلاق سے، بُرے اعمال سے نفسانی خواہشات سے اور تمام بیماریوں سے۔ (ترمذی، ابن حبان)

﴿۵۱﴾ ہر برائی سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ
 نَبِیُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ۔

قَلْبِیْ وَمِنْ شَرِّ مَنِیْ۔
 ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اپنے کان کی برائی سے آنکھ کی برائی سے، زبان کی برائی سے قلب کی برائی سے (یعنی غیبت سننے، بدظنی، ناجائز گفتگو اور کینہ وغیرہ سے) اور اپنی منی کی برائی سے (کہ اس کے بہجان سے گناہ کی رغبت ہو)۔ (ترمذی، ابوداؤد، نسائی)

﴿۴۹﴾ بُری اموات سے اللہ کی پناہ
 ۞ بہت دھیان سے یہ دعا پڑھتے ۞
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَاَعُوْذُ
 بِكَ مِنَ التَّرْدِیِّ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ
 وَالْحَرَقِ وَالْهَرَمِ وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ یَّتَخَبَّطَنِیَ
 الشَّیْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اَمُوْتَ
 فِیْ سَبِیْلِکَ مُدْبِرًا وَاَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَمُوْتَ لَدِیْغًا۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ میرے اوپر مکان وغیرہ آگرے یا میں مکان وغیرہ سے

یوم الاثنین جو تھی منزل پیر

﴿۵۲﴾ چار رذائل کے شر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا یَنْفَعُ
 وَقَلْبٍ لَا یَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لَا یُسْمَعُ وَنَفْسٍ
 لَا تَشْبَعُ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْاَرْبَعِ .

ترجمہ: اے اللہ میں پناہ لیتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے اور ایسے قلب سے جو تجھ سے نہ ڈرے اور ایسی دعا سے جس کی نشوونما نہ ہو اور ایسے حرص سے جس کی نیت نہ بھرے غرض ان چاروں باتوں سے۔ (ترمذی مستدرک لحکم)

﴿۵۵﴾ دین کے کام میں مخالفت کرنے والوں کی شرارت سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ اَنْ نَّرْجِعَ عَلٰی
 اَعْقَابِنَا اَوْ نَقُتَلَ عَنْ دِیْنِنَا .

ترجمہ: اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ خود ہم پھر کفر کی طرف اُلٹ جاؤں واپس ہوں یا اپنے دین میں مخالفین کی جانب سے قتل میں ڈالے جائیں۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ان تمام اُبری بری باتوں کے شر سے جن سے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری پناہ لی ہے۔ (ترمذی)

﴿۵۲﴾ بُرے پڑوسی کے شر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوْءِ فِیْ
 دَارِ الْمُقَامَةِ فَاِنَّ جَارَ الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّلُ .

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بُرے پڑوس سے اپنے سکونت گاہ میں کیونکہ جنگل (یعنی سفر) کا پڑوسی تو چلا بھی جاتا ہے (اور سکونت گاہ الادیر پاہوتا ہے)۔ (ابن حبان مستدرک لحکم)

﴿۵۳﴾ بھوک کی شدت اور خیانت سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَاِنَّهُ یُبْسِرُ
 الصَّجِیْعَ وَمِنْ الْخِیَانَةِ فَاِنَّهَا یُبْسِتُ الْبِطَانَةَ .

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بھوک کی شدت سے کیونکہ وہ بری رفیق ہے اور خیانت سے کیونکہ وہ انسان کی اندرون کی بری خصلت ہے۔ (ابوداؤد)

ترجمہ: اے اللہ مجھ کو میرے نفس کی بدی سے اپنی پناہ میں لے لے۔ (الحکم، الترمذی)

﴿۵۹﴾ اللہ کے علم میں جو برائیاں ہیں ان سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ.

ترجمہ: اے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں ان باتوں کی برائی سے جن کو تو جانتا ہے۔
(ترمذی، مستدرک الحاکم)

﴿۶۰﴾ نقصان پہنچانے والے مصائب اور گمراہ کرنے والے فتنوں اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضَرَاءٍ مُضِرَّةٍ
وَفِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ -

ترجمہ: اے اللہ تیری پناہ لیتا ہوں ایسی مصیبت سے جو نقصان رسال ہو
اور ایسے فتنے سے جو گمراہ کر دے۔ (ابن حبان، نسائی، مستدرک الحاکم)

﴿۶۱﴾ ہر آنے والی مصیبت سے اللہ کی پناہ
؛ مندرجہ ذیل دعا حضور ﷺ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سکھائی تھی
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ

﴿۵۶﴾ بُر وقت اور بُرے ساتھی سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ يَوْمِ السُّوءِ وَ
مِنْ لَيْلَةِ السُّوءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوءِ وَمِنْ
صَاحِبِ السُّوءِ وَمِنْ جَارِ السُّوءِ فِي دَارِ الْمُقَامَةِ -

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بُرے دن سے بری رات سے اور ہر بری گھڑی
سے اور بُرے ساتھی اور اپنی سکونت گھر کے بُرے پڑوسی سے۔ (مجمع کبیر طبرانی، مجمع الزوائد)

﴿۵۷﴾ ضد اور نفاق اور تمام بُرے اخلاق سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّقَاقِ وَالنِّفَاقِ
وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ -

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ضد نفاق سے اور تمام بُرے اخلاق سے
(ابوداؤد، نسائی)

﴿۵۸﴾ نفس کی برائی سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ أَعِزَّنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي -

﴿۶۲﴾ تمام مخلوق کی برائی سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ
 اٰخِذٌ بِنَاصِیَتِهِ۔

ترجمہ: اے اللہ تیسری پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جس کی
 پیشانی کو تو نے پکڑ رکھا ہے۔
 (الحاکم فی المستدرک)

﴿۶۵﴾ اللہ کے غضب سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِنُوْرٍ وَجْهِكَ الْكَرِیْمُ
 الَّذِیْ اَضَاءَتْ لَهُ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ لَهٗ
 الظُّلُمٰتُ وَصَلَحَ عَلَیْهِ اَمْرُ الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ
 اَنْ تَحِلَّ عَلَیَّ غَضَبُكَ اَوْ تُنْزِلَ عَلَیَّ سَخَطَكَ
 ترجمہ: اے اللہ میں تیسری اس کریم ذات کے نور کے وسیلے سے تیری
 پناہ لیتا ہوں جس سے سب آسمان جگمگا رہے ہیں اور سب تاریکیاں

وَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ اَعْلَمْ۔
 ترجمہ: اے اللہ تجھ سے تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں جو جلدی ملنے والی
 ہے اور جو دیر میں ملنے والی ہے جس کو میں جانتا ہوں اور جس کو نہیں
 جانتا۔
 (ابن ماجہ، مستدرک، ابن حبان)

﴿۶۲﴾ قول و عمل کی برائی سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ
 اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ عَمَلٍ۔
 ترجمہ: اے اللہ تیسری پناہ لیتا ہوں دوزخ کے عذاب سے اور ہر اس
 قول و عمل سے جو مجھ کو اس سے قریب کر دے۔ (ابن ماجہ، مستدرک، ابن حبان)

﴿۶۳﴾ اللہ کے پاس برائی کے موجودہ خزانے سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ خَزَاۤءِنُهُ بِیَدِكَ۔
 ترجمہ: اے اللہ تیسری پناہ لیتا ہوں تمام برائیوں سے جس کے
 خزانے تیرے ہاتھ میں ہیں۔
 (الحاکم فی المستدرک)

﴿۶۸﴾ معاملات کی الجھنوں سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
 وَ سَوْسَةِ الصَّدْرِ وَ شَتَاتِ الْاَمْرِ۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری ہی پناہ لیتا ہوں قبر کے عذاب اور سینہ کے وسوسوں سے اور اپنے معاملات کی پراگندگی سے۔ (ترمذی)

﴿۶۹﴾ ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں اس سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَجِّءُ
 بِهِ الرِّیَاحُ۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ان برائیوں سے جو ہوائیں لے کر آتی ہیں۔ (ترمذی)

﴿۷۰﴾ دواذھی چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْاَعْمِیْنِ

روشن ہیں اور جس کی وجہ سے دنیا و آخرت کے کام درست ہیں اس بات سے
 کہ تو مجھ پر غصہ ہو یا مجھ سے خفا ہو۔ (کنز العمال، الجامع الصغیر)

﴿۶۶﴾ مکر دینے والے ساتھی کے شر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ خَلِیْلِ مَّا كَرِهَ
 عَيْنَاهُ تَرِیَانِیْ وَ قَلْبُهُ یَرِیْعَانِیْ اِنْ رَّآیَ
 حَسَنَةً دَفَنَهَا وَ اِنْ رَّآیَ سَیِّئَةً اَذَاعَهَا۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں مجھ کو دیکھیں اور اس کا دل میری ٹوہ میں لگا رہے اگر کوئی نیکی دیکھے تو اس کو بھپالے اور برائی دیکھے تو اس کو بھیلاتا پھرے۔ (جامع الصغیر، کنز العمال)

﴿۶۷﴾ تنگدستی کی مصیبت اور حد سے گزری ہوئی تنگدستی سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُؤْسِ وَ التَّبَاوُسِ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تنگدستی کی مصیبت سے اور حد سے گزری ہوئی تنگدستی سے۔ (کنز العمال، فی حدیث خیر الخلق للنواوی)

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں عورتوں کے فتنہ سے اور تیری پناہ لیتا ہوں قبر کے فتنہ سے۔
(جامع الصغیر)

﴿۴۳﴾ شیطان اور اس کے لشکر سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ إِبْلِيسَ وَجُنُودِهِ
ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں شیطان سے اور اس کے لشکر سے۔
(عمل الیوم واللیلۃ ابن السنی، کتاب الاذکار للنووی)

﴿۴۴﴾ آخرت کی ذلت سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ تُصَدَّ عَنِّي
وَجْهَكَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ
ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تو قیامت میں اپنا رخ مجھ سے پھیر لے۔
(عمل الیوم واللیلۃ للسیوطی)

﴿۴۵﴾ ساری برائیوں سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

السَّيْلِ وَالْبَعِيرِ الصَّوْلِ
ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دو اندھوں کے شر سے ایک سیل کا پانی دوسرے حملہ آور اونٹ (دونوں کا رخ جھڑھو جائے اندھا دھند ہوتا ہے) (الجامع الصغیر، مجمع الزوائد)

﴿۴۱﴾ قرض کی زیادتی اور دشمن کے غلبے اور رانڈ بی بی کی بربادی اور مسیح دجال کے فتنوں سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ
وَمِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَمِنْ بُوَارِ الْإِيْمِ وَمِنْ
فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ
ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں قرض کی زیادتی اور دشمن کے غلبے سے اور رانڈ بی بی کی بربادی سے مسیح دجال کے فتنہ سے۔ (جامع الصغیر، معجم الکبیر)

﴿۴۲﴾ عورتوں کے فتنوں اور قبر کے فتنوں سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ غِنَى يُطْغِيَنِي

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ کا طالب ہوں ہر ایسے غل سے جو مجھے سوا کر دے اور تیری پناہ لیتا ہوں ہر ایسے دوست جو مجھے تکلیف دے اور تیری پناہ لیتا ہوں ہر ایسی امید سے جو مجھ کو غافل بنا دے اور تیری پناہ لیتا ہوں ہر ایسی احتیاج سے جو مجھے نسیان میں ڈال دے اور تیری پناہ لیتا ہوں ہر ایسے غنا سے جو مجھے سرکش کر دے۔
(جمع الجوامع للسيوطی، قسم الاقوال)

﴿۷۸﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ ضِيقِ الدُّنْيَا وَضِيقِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں دنیا کی تنگی سے اور قیامت کے دن کی تنگی سے۔
(ابن ماجہ، النسائی)

﴿۷۹﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتٍ أَلْهَمَ

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر شر سے۔ (قسم الاقوال، جمع الجوامع للسيوطی)

یوم الثلاثاء پانچویں منزل منگل

﴿۷۶﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلَاءِ وَمِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ

ترجمہ: اے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں ان سب کمزورتوں سے جو میرے ہیں، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آزمائش کی سختی سے اور آخرت کے عذاب سے۔ (افرد و ماثر الخطاب علی)

﴿۷۷﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ عَمَلٍ يُخْزِيَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ صَاحِبٍ يُؤْذِيَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ أَمَلٍ يُلْهِيَنِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ فَقْرٍ يُنْسِيَنِي

﴿۸۱﴾ کفر اور فقر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِیْمِ
 وَبِاسْمِكَ الْعَظِیْمِ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ.
 ترجمہ: اے اللہ میں تیرے بزرگی والے چہرے اور تیرے بڑائی والے
 نام کے صدقہ میں کفر اور محتاجی سے پناہ مانگتا ہوں۔ (جامع الصغیر للسیوطی)

﴿۸۲﴾ رشتہ داروں کی بددعا سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ یَّدْعُو عَلَیَّ
 رَحِمٌ قَطَعَتْهَا.
 ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں رشتے ناتے کی بددعا سے
 جس کو میں نے کاٹ ڈالا ہو۔ (طبرانی)

﴿۸۳﴾ جانوروں کے شر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَنْ یَّمْشِیْ

وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَّوْتِ الْغَمِّ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنَ
 الْجُوعِ فَانَّهٗ بِئْسَ الضَّجِیْعُ وَاَعُوْذُ بِكَ
 مِنَ الْخِیَانَةِ فَانَّهَا بِئْسَتْ الْبُطَانَةُ.
 ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں فکر کی موت اور تیری پناہ لیتا ہوں
 غم کی موت اور تیری پناہ لیتا ہوں بھوک سے کیوں کہ انسان کے ساتھ یہ بہت
 بری رفیق ہے اور تیری پناہ لیتا ہوں خیانت کیونکہ یہ اندرونی بری نسل ہے۔ (کنز العمال)

﴿۸۰﴾ شرک سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ
 بِكَ شَیْئًا وَّاَنَا اَعْلَمُ بِهِ وَاَسْتَغْفِرُكَ
 لِمَا لَا اَعْلَمُ بِهِ.
 ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک
 ٹھہراؤں اور میں یہ جانتا بھی ہوں اور تجھ سے استغفار کرتا ہوں اس کی
 جس کو میں نہ جانتا ہوں۔ (احمد و البخاری فی الادب المفرد)

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ایسی عورت کے جو بڑھاپے سے پہلے مجھ کو بوڑھا بنا دے اور تیری پناہ لیتا ہوں ایسی اولاد سے جو میرے لئے وبال جان بن جائے اور تیری پناہ لیتا ہوں ایسے مال سے جو میرے لئے عذاب کا سبب بنے اور تیری پناہ لیتا ہوں اس دغا باز دوست کے جو نیکی دیکھے تو اس کو دبا دے اور برائی دیکھے تو اس کو لوگوں میں کہتا پھرے۔ (ایسوی علیہ السلام)

﴿۸۵﴾ مالدار پر اکرٹنے سے اور فقیہ کی ذلت سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ بَطَرِ الْغَنَى
وَمَذَلَّةِ الْفَقْرِ .

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں مالدار پر اکرٹنے سے اور فقیہ کی ذلت سے (الطی فی الفردوس بہ انور الخطاب)

﴿۸۶﴾ حق کے بعد شک سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّكِّ فِي
الْحَقِّ بَعْدَ الْيَقِينِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ
وَمِنْ شَرِّ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ .

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں ان جانوروں کے شر سے جو پیٹ کے بل چلتے ہیں اور ان کے شر سے جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور ان کے شر سے جو چار پیروں پر چلتے ہیں۔ (کنز العمال)

﴿۸۷﴾ تھکا دینے والی عورت یا فرمان لاد، مال دھو کر دینے والے ساتھی سے اللہ کی پناہ
مندرجہ ذیل دعا مع ترجمہ خوب غور سے پڑھتے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ امْرَأَةٍ تُشَيِّبُنِي
قَبْلَ الْمَشْيِبِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ وَلَدٍ
يَكُونُ عَلَيَّ وَبَالًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ
يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ صَاحِبٍ
خَدِيعَةٍ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفَنَهَا وَإِنْ
رَأَى سَيِّئَةً أَفْشَاهَا .

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اچانک موت سے اور سانپ کے کاٹنے سے اور درندوں سے اور ڈوب جانے سے اور جل جانے سے اور اس بات سے کہ میں کسی چیز پر گریز کروں اور لشکر کے بھاگنے کے وقت قتل ہونے سے۔ (کنز العمال)

﴿۸۹﴾ تَبْرِكَ عَذَابِ الْقَبْرِ وَتَقْتُلُكَ مِنَ الْقَبْرِ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

ترجمہ: اے اللہ میں قبر کے عذاب سے اور قبر کی آزمائش سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (اخر جہاد احمد قال الہی بنی جزا ص ۱۱۵ رجالہ ثقات حیاء الصحابہ رضی اللہ عنہم)

﴿۹۰﴾ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِقَابِكَ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْكَ اللَّهُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ ثَنَاءً عَلَيْكَ
وَلَوْ حَرَصْتُ وَلَكِنْ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ

الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ يَوْمِ الدِّينِ
ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں یقین کر لینے کے بعد حق میں شک کرنے سے اور تیری پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے اور تیری پناہ لیتا ہوں قیامت کے دن کے شر سے۔ (کنز العمال، جزوی فرق کے ساتھ)

﴿۸۷﴾ ذَلَّتْ وَرَسْوَانِي سَلَامَةً
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزِي
ترجمہ: اے اللہ ہم کو ایسی عزت دے جس کے بعد ذلت نہ ہو
اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نَذَلَّ وَنَخْزِي
ترجمہ: اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بات سے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوں۔ (کنز العمال)

﴿۸۸﴾ اِجَانِكَ كِي مَوْتٍ سَانِپْ كُ دَسْنَا اور درندوں سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَوْتِ الْفُجَاءَةِ
وَمِنْ لَدَغَةِ الْحَيَّةِ وَمِنْ السَّبْعِ وَمِنْ
الْغَرَقِ وَمِنْ الْحَرَقِ وَمِنْ أَنْ أَخْرَعَ عَلَى
شَيْءٍ وَمِنْ الْقَتْلِ عِنْدَ فِرَارِ الزَّحْفِ

الْمَنْظَرُ وَسُوءُ الْمُنْقَلَبِ فِي الْاَهْلِ وَالْمَالِ .

ترجمہ: اے اللہ میں سفر کی مشقت سے اور تکلیف دہ منظر اور اہل و عیال اور مال و دولت میں بُری واپسی سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (خریجہ مسلم و ابوداؤد و الترمذی و کذا فی جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۶۱، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۵)

﴿۹۳﴾ جہنم کی آگ سے اللہ کی پناہ

سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللَّهِ وَحُسْنِ بَلَاءِهِ عَلَيْنَا رَبَّنَا صَاحِبُنَا وَافْضِلْ عَلَيْنَا عَائِدًا بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ

ترجمہ: سننے والے نے ہم سے اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کے ہمیں اچھی طرح آزمانے کو سنا ہے ہمارے رب! تو ہمارا ساتھ ہو جا اور ہم پر فضل فرما میں جہنم کی آگ سے پناہ لیتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں۔ (خریجہ مسلم و ابوداؤد و کذا فی جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۶۱، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۶)

یوم الاربعاء | چھٹی منزل بدھ

﴿۹۴﴾ بستی اور بستی والوں کے شر سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الْقَرْيَةِ

عَلَى نَفْسِكَ .

ترجمہ: اے اللہ میں تیری سزا سے تیرے عفو و درگزر کی پناہ چاہتا ہوں اور تیرے غصہ سے تیری رضا کی پناہ چاہتا ہوں اور تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اور چاہے مجھے کتنا شوق ہو اور میں کتنا زور لگاؤں تیری تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنی تعریف کی۔

(خریجہ الطبرانی فی الاوسط قال ابیہنی ج ۱ ص ۱۲۲، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۲)

﴿۹۱﴾ مرد و شیطان سے اللہ کی پناہ

اَعُوْذُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

ترجمہ: میں مرد و شیطان سے عظمت والے اللہ، اس کی کریم ذات کی اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ چاہتا ہوں۔

(خریجہ ابوداؤد، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۳)

﴿۹۲﴾ سفر کی مشقتوں سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعَثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ

﴿۹۷﴾ ہوا کی برائی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ -

ترجمہ: اے اللہ میں تجھ سے اس ہوا کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ دے کر یہ ہوا بھیجی گئی ہے اس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔
(اخرج الشیخان والترمذی، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۹)

﴿۹۸﴾ بادل کی برائی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أُرْسِلَ بِهِ -

ترجمہ: اے اللہ ہم اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جسے دے کر اس بادل کو بھیجا گیا ہے۔
(اخرج ابن ابی شیبہ کذا فی الكنز ج ۲ ص ۲۹، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۹)

﴿۹۹﴾ رو کر دی جانے والی دعا سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ دَعْوَةٍ لَا يَسْتَجَابُ لَهَا -

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس دعا سے جو قبول نہ ہو۔ (حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۴۰۰)

﴿۹۵﴾ وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا -

ترجمہ: اے اللہ ہم تیری پناہ لیتے ہیں اس بستی کے شر سے اور بستی والوں کے اور جو کچھ اس بستی میں ہے اس کے شر سے۔ (حیاة الصحابہ ج ۲ ص ۳۹۶، اخرج الطبرانی قال البیہقی ج ۱ ص ۱۳۵)

﴿۹۶﴾ کپڑے، کرتا، عمامہ، چادر وغیرہ کے شر سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صَنَعَ لَهُ -

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کپڑے کے شر سے اور جس مقصد کے لئے اسے بنایا گیا ہے اس کے شر سے۔ (اخرج الترمذی والوداؤد کذا فی جمع الفوائد ج ۲ ص ۲۲، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۸)

﴿۹۷﴾ ہر ماہ کے شر اور تقدیر کے شر سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الشَّهْرِ وَشَرِّ الْقَدَرِ -

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس مہینہ کی برائی سے اور تقدیر کی برائی سے۔ (اخرج الطبرانی واسنادہ کما قال البیہقی ج ۱ ص ۱۳۹، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۳۹۹)

(۱۰۲)

جن وانس کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ
 اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ
 وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمْزَاتِ
 الشَّيَاطِينِ اَنْ يَّحْضُرُونِ۔

ترجمہ: میں اللہ کے غصہ اور اس کی سزا سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وساوس سے اور شیاطین کے میرے پاس آنے سے اس کے کامل کلمات کی پناہ چاہتا ہوں۔ (الخروج برانی فی الوسط لکذا فی الترغیب والترہیب، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۱۸۱)

(۱۰۳)

غفلت کے عذاب سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَاْخُذْنِیْ عَلٰی غَرَّةٍ اَوْ
 تَذَرْنِیْ فِیْ غَفْلَةٍ اَوْ تَجْعَلْنِیْ مِنَ الْغَافِلِیْنَ۔
 ترجمہ: اے اللہ میں اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تو اچانک بے خبری میں میری پکڑ کرے یا مجھے غفلت میں پڑا رہنے دے یا مجھے غافل لوگوں میں سے بنا دے۔ (الخروج ابن ابی شیبہ البقیع فی الحلیۃ حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۱۸۹)

(۱۰۰)

بہت زیادہ بوڑھا ہو جانے سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ
 وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَسَوْءِ الْعُمْرِ۔
 ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں کججوسی اور بزدلی سے، سینے کے فتنہ سے، عذاب قبر سے اور بری عمر یعنی بہت زیادہ بوڑھا ہو جانے سے۔ (الخروج احمد وابن ابی شیبہ والبواذی والنسائی وغیرہم، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۴۰۸)

(۱۰۱)

بری نظر سے اللہ کی پناہ
 فَوَيْلٌ لِّحَضْرَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ و حضرت حسین رضی اللہ عنہ
 کو ان کلمات سے اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے
 اِنِّیْ اَعِيْذُ کُمْ بِکَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ
 کُلِّ شَیْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ کُلِّ عَیْنٍ لَّامَّةٍ۔
 ترجمہ: میں تم دونوں کو ہر شیطان سے، موزی زہریلے جانوروں سے اور ہر لگنے والی بری نظر سے اللہ کے ان کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں جو پورے ہیں۔ (عند ابی نعیم فی الحلیۃ لکذا فی الکنتر ج ۲ ص ۲۱۲، حیاة الصحابہ ج ۳ ص ۴۰۸)

السُّوقِ وَشَرَّ أَهْلِهَا.

ترجمہ : اے اللہ میں تیسری پناہ لیتا ہوں اس بازار کے شر سے اور بازار والوں کے شر سے۔ (عند الطبرانی ایضاً قال ابیہی جزا ص ۱۲۹، حیاة الصحابہ جز ۳ ص ۴۲۵)

۱۰۷) دل کے بکھر جانے سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ تَفْرِقَةِ الْقَلْبِ.

ترجمہ : اے اللہ میں دل کے بکھر جانے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (اخرجه ابونعیم فی الحلیۃ جزا ص ۲۱۹، حیاة الصحابہ جز ۳ ص ۴۲۶)

۱۰۸) گندگی اور گندی چیزوں سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ

ترجمہ : اے اللہ میں گندگی اور گندی چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں (اس میں ناپاک جن وشیاطین بھی داخل ہے۔ (الدعاء السنون ص ۱۵)

۱۰۹) ناپاک چیزوں سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الرَّجْسِ النَّجِسِ

۱۰۴) جیل اور پولیس کے ڈنڈوں سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ السِّجْنِ وَالْقَيْدِ وَالسَّوْطِ.

ترجمہ : اے اللہ تیسری پناہ چاہتا ہوں جیل سے اور بیڑی اور کوڑے سے۔ (عند البیہقی کذا فی الکتر جز ۸ ص ۱۱۹، حیاة الصحابہ جز ۳ ص ۴۲۱)

۱۰۵) ہر مہینے کی برائی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذَا الشَّهْرِ وَشَرِّ مَا فِيهِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهُ.

ترجمہ : اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس مہینے کے شر سے اور جو کچھ اس میں ہے اس کے شر سے اور جو کچھ اس کے بعد ہے۔ (اخرجه ابن المنجار کذا فی الکتر جز ۲ ص ۳۲۶، حیاة الصحابہ جز ۳ ص ۴۲۲)

۱۰۶) بازار اور بازار والوں کی برائی سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ

﴿۱۱۲﴾ پراگندہ اور بیہودہ خیالات سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الشَّیْطَانِ
 الرَّجِیْمِ وَهَمَزِهِ وَنَفَاخِهِ وَنَفَثِهِ ۔

ترجمہ : میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں مردود شیطان سے یعنی اس کے پیدا کردہ "تکبر سے اور اس کے پھونکنے ہوئے پراگندہ اور بیہودہ خیالات سے اور اس کے کچوکوں (دوسووں) سے۔
 (حاکم ج ۲ ص ۲۰۷ بسند صحیح الدعاء المسنون ص ۱۴۷)

﴿۱۱۳﴾ بد قالی اور ہلاکت سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبُكَ مِنَ الشُّوْمِ وَالْهَلَاکَةِ ۔
 ترجمہ : اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں بد قالی اور ہلاکت سے
 (اجیار ، قوت القلوب ، عوارف المعارف ص ۲۴۵ الدعاء المسنون ص ۱۴۷)

﴿۱۱۴﴾ زنجیروں اور طوق سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبُكَ مِنَ السَّلَاسِلِ وَالْاَغْلَالِ ۔
 ترجمہ : اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں زنجیروں اور طوق سے ۔
 (فردوس ، اتخاف ص ۳۹۵ الدعاء المسنون ص ۱۸)

اَلْحَبِیْثُ الْمُخْبِثُ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ۔

ترجمہ : اے اللہ میں ناپاک اشیاء گندی چیزوں اور خباثت میں ڈالنے والے مردود شیطان سے پناہ مانگتا ہوں ۔ (اذکار ص ۲، الدعاء ص ۹۲ بسند ضعیف، الدعاء المسنون ص ۱۵۸)

﴿۱۱۰﴾ جہنم سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَسْأَلُكَ اَنْ تُعِیْذَنِیْ مِنَ النَّارِ
 وَتُدْخِلَنِیْ الْجَنَّةَ ۔

ترجمہ : اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے جہنم سے پناہ دیجئے اور جنت میں داخل کیجئے ۔ (ابن اسنی ص ۸۷، اذکار ص ۲۵، الدعاء المسنون ص ۱۶۲)

﴿۱۱۱﴾ ابلیس اور اس کے لشکر سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُبُكَ مِنْ اِبْلِیْسَ
 وَجُنُوْدِهِ ۔

ترجمہ : اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں ابلیس اور اس کے لشکر سے ۔
 (ابن اسنی اذکار ص ۷۳، الدعاء المسنون ص ۱۶۷)

﴿۱۱۷﴾ تجارت میں نقصان سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اُصِیْبَ فِیْهَا
 یَمِیْنًا فَاجِرَةً اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً .

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی جھوٹی قسم یا گھاٹے کے معاملے میں پڑ جاؤں۔ (حاکم ۵۳۹/۱، اذکار ۲۵۹ بسند ضعیف الدعار المسنون ص ۵۳)

﴿۱۱۸﴾ جانور کی برائی سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَ
 شَرِّ مَا جَبَلَ عَلَیْهِ .

ترجمہ: اے اللہ میں اس جانور کے شر سے اور جس شر پر یہ پیدا کیا گیا آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ (ابوداؤد، اذکار ۲۴۲، الدعار المسنون ص ۴۸)

یوم الخميس ساتویں منزل جمعرات

﴿۱۱۹﴾ زمانے کے حوادث سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ بَوَائِقِ الدَّهْرِ

﴿۱۱۵﴾ جہنم کے احوال سے اللہ کی پناہ

اَعُوْذُ بِكَ رَبِّیْ مِنْ حَالِ النَّارِ .

ترجمہ: اے میرے رب آپ کی جہنم کے احوال سے پناہ مانگتا ہوں۔ (ابن ماجہ ۲۷۲، بیہقی فی الشعب ۹۱، الدعار المسنون ص ۵۳)

﴿۱۱۶﴾ رزق کو روکنے والے اور عار کی قبولیت کو روکنے والے گناہوں سے اللہ کی پناہ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ تَمْنَعُ
 اِجَابَتَكَ ، اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ
 الذُّنُوْبِ الَّتِیْ تَمْنَعُ رِزْقَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
 اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الذُّنُوْبِ الَّتِیْ تُحِلُّ النِّقْمَ .

ترجمہ: اے اللہ میں اس گناہ سے جو قبول دعا سے مانع ہو جائے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس گناہ سے جو میرے رزق کو روک دے۔ اے اللہ میں اس گناہ سے پناہ مانگتا ہوں جو سزا کو حلال کر دے۔ (الدعار ۳۱۴۲۸، بسند ضعیف، الدعار المسنون ص ۵۷)

ترجمہ: اے اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے ہر ظالم بادشاہ کی برائی سے اور مردود شیطان کی برائی سے، اے اللہ میں آپ کی حفاظت ڈھونڈتا ہوں ہر ذی شر کی برائی سے جسے آپ نے پیدا کیا اس سے میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اور اسے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں، اللہ کے نام سے جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ کہتے وہ اللہ بیکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا اور نہ جنا گیا، نہ کوئی اس کا ہمسر و سا بھی ہے۔ اسی طرح پیچھے سے اسی طرح دائیں سے اسی طرح بائیں سے اور اسی طرح اوپر سے۔

(خصائص نبری ۲/۱۷۶، ابن سنی ۳۰۸ بسند ضعیف، الدرار المسنون ۳۲۷)

﴿۱۲۱﴾

ضدی ظالم سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ
رَجِيمٍ وَمِنْ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔

ترجمہ: اے اللہ حفاظت فرما میری شیطان مردود اور ضدی ظالم سے۔

(الدرار ۲/۱۲۹۳ بسند ضعیف، الدرار المسنون ۳۲۶)

﴿۱۲۲﴾

شیطان کے چھٹ بھئیوں سے اللہ کی پناہ
اعُوذُ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمُمْسِكُ

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی پناہ لیتا ہوں زمانے کے حوادث سے۔
(بیہقی ۵/۱۱۷، سبل ۸/۸۷۱، الدرار المسنون ۳۵۶)

﴿۱۲۰﴾

ظالم حاکم کی برائی سے اللہ کی پناہ
اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْ عِيَاذِكَ مِنْ شَرِّ
كُلِّ سُلْطَانٍ وَمِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَحْتَرِسُ بِكَ مِنْ شَرِّ جَمِيعِ
كُلِّ ذِي شَرٍّ خَلَقْتَهُ وَأَحْتَرِزُ بِكَ مِنْهُمْ
وَأَقْدِمُ بَيْنَ يَدَيَّ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ، اللّٰهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَ
مَنْ خَلَفِيْ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَّمِينِيْ مِثْلَ
ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِيْ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ فَوْقِيْ
مِثْلَ ذَلِكَ۔

(۱۲۳)

شیر کے حملے سے اللہ کی پناہ

أَعُوذُ بِرَبِّ دَانِيَالَ وَالْجُبِّ مِنْ شَرِّ الْأَسَدِ

ترجمہ: میں پناہ چاہتا ہوں دانیال اور اس مقام کے رب کی شیر کے حملے سے۔ (کنز العمال ۴/۴۱، ابن سنی ۳۰۸ مکارم خرائطی ۲۹۵۹، الدعاء المسنون ص ۲۲)

(۱۲۴)

گاؤں والوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا

جُمِعَتْ فِيهَا، اللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا

وَأَعِزَّنَا مِنْ وَبَاهَا وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا

وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا۔

ترجمہ: اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بستی کے شر سے اور جو اس میں جمع کی گئی ہے اس کی برائی سے، اس بستی کے فوائد سے ہمیں نواز اور اس کی برائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اور ہمیں بستی والوں کا محبوب بنا اور اس کے نیک لوگوں کو ہمارا محبوب بنا۔

(اذکار ۵۴۵، نزل ۳۳۶، ابن سنی ۵۲۷، الدعاء المسنون ص ۴۰)

السَّمُوتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعَنَّ عَلَى الْأَرْضِ
الْأَبَازِنَةِ مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فَلَانٍ وَ
جُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ مِنَ الْجِنِّ
وَالْإِنْسِ اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَارًا
مَنْ شَرَّهُمْ جَلَّ ثَنَاءُكَ وَعَزَّ جَارُكَ وَ
تَبَارَكَ اسْمُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔

ترجمہ: میں اس اللہ کی پناہ لے رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے روک رکھا ہے سات آسمانوں کو زمین پر گرنے سے مگر جب اس کا حکم ہو جائے میں پناہ لیتا ہوں تیرے فلاں بندے اور اس کے لشکر سے اور اس کے خدمتگار اور مددگار جن وانس کے شر سے اے اللہ تو ان کی شرارت سے میرا محافظ بن جا تیری تعریف بڑی ہے، تیری پناہ لینے والا غالب ہے، بابرکت ہے تیرا نام، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔

(ادب مفرد ۷۰۸، الدعاء بطبرانی ۱۲۹۵، حصن ۲۲۳، بسند صحیح، الدعاء المسنون ص ۲۳)

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ

ترجمہ: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اندھیری رات کی برائی سے جب کہ وہ آجائے۔
(ترمذی، حصن، ۳۴۲، الدعاء المسنون ص ۳۷)

(۱۲۸)

بیماری سے اللہ کی پناہ

أَعِيذُكَ بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الصَّمَدِ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مِّنْ شَرِّ مَا تَجَدُّ

ترجمہ: تمہاری (بیمار آدمی کی) حفاظت طلب کرتا ہوں اس اللہ سے جو بیکتا ہے بے نیاز ہے، نہ اس نے جنا نہ وہ جنا گیا۔ نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔
اس برائی سے جو تم محسوس کرتے ہو۔

(الدعاء ۱۳۲۲/۳، الفتوحات ۴/۲، البیعلی، الدعاء المسنون ص ۳۴)

(۱۲۹)

جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اللہ کی پناہ

نَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ عِرْقٍ

(۱۲۵)

مظلوم کی بددعا سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ

ترجمہ: اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کی سفر کی پریشانیوں اور برائی کے آنے سے اور گناہوں کی طرف لوٹنے سے اور مظلوم کی بددعا سے اور اہل و مال پر برا منظر دیکھنے سے۔

(مسلم ۴۳۲، ابن ماجہ، ابن سنی ۴۴۱، الدعاء المسنون ص ۳۸)

(۱۲۶)

جہنم کی تیز ٹھنڈک سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ اجْرِنِي مِنْ زَمْهِرٍ يَرِي جَهَنَّمَ

ترجمہ: اے اللہ مجھے جہنم کی تیز ٹھنڈک سے پناہ دیجئے۔

(ابن سنی ۲۶۵، بیہقی فی الاسماء، الدعاء المسنون ص ۳۷)

(۱۲۷)

اندھیری رات کی برائی سے اللہ کی پناہ

جس پر یہ پیدا کی گئی ہے۔ (ابوداؤد ص ۲۹۳ ابن سنی ص ۵۵۳، الدعاء المسنون ص ۳۲۶)

﴿۱۳۲﴾ گنہگار مردوں اور عورتوں کی شرارتوں سے اللہ کی پناہ
اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ وَنَدْرَاُ
بِكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ .

ترجمہ: اے اللہ! ہم ان کی شرارتوں سے تیری پناہ لیتے ہیں اور تجھے
ان کے مقابلے میں سینہ سپر کرتے ہیں۔ (مسند ابوعبید اللہ ص ۳۲۲، الدعاء المسنون ص ۴۱)

﴿۱۳۳﴾ علماء کی بددعا سے اللہ کی پناہ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ تَلْعَنَنِیْ
قُلُوْبُ الْعُلَمَآءِ .

ترجمہ: اے اللہ! میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ علماء کے
دل مجھ پر لعنت کریں۔ (عند ابی نعیم ایضاً ص ۲۲۳، حیاة الصحابہ ج ۲ ص ۴۲)

﴿۱۳۴﴾ خالص شر سے اللہ کی پناہ

نَعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ .

ترجمہ: بزرگ اللہ سے جوش مارنے والی رگ کی برائی سے اور آگ دوزخ کی برائی
سے ہم پناہ لیتے ہیں۔ (ابن ماجہ ص ۲۵۲۶، ابن سنی، حاکم ص ۳۱۴، الدعاء المسنون ص ۳۲۶)

﴿۱۳۵﴾ برائی کی تکلیف اور ڈر سے اللہ کی پناہ
اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا
اَجَدُ وَاُحَاذِرُ .

ترجمہ: قدرت و عزت خداوندی کے واسطے سے اس برائی سے پناہ
مانگتا ہوں جس کی تکلیف اور جس سے ڈر محسوس کرتا ہوں۔
(مسلم ص ۲۲۴، اذکار ص ۱۱۴، الدعاء المسنون ص ۳۳۶)

﴿۱۳۶﴾ گنہگار دلہن کے شر سے اللہ کی پناہ
اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَ
شَرِّ مَا جَبَلَتْ عَلَیْهِ .

ترجمہ: اے اللہ! میں تیری پناہ لیتا ہوں اس کی برائی سے اور اس برائی سے

يُصِيبُنِي فِيهَا مَا أَكْرَهُ فِي دِينِي وَدُنْيَايَ

ترجمہ: میں خواب کی تکلیفی باتوں سے جس کا تعلق دین دنیا سے ہو پناہ مانگتا ہوں جس سے کہ ملائکہ خدا اور رسول نے پناہ مانگی ہے۔ (الدعاء المسنون ص ۹۲)

﴿۱۳۷﴾ شیطان والے اعمال سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ وَسَيِّئَاتِ الْأَحْلَامِ۔

ترجمہ: اے اللہ میں شیطان کی حرکتوں سے اور برے خوابوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ (ابن سنی ۷۷۰، الدعاء المسنون ص ۹۱)

﴿۱۳۸﴾ ساری مخلوق کے شر سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ خَلْقِكَ كُلِّهِمْ جَمِيعًا أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ أَحَدٌ أَوْ أَنْ يَبْغِيَ عَلَيَّ عَزَّجَارُكَ وَجَلَّ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ لَا يَخْلُطُهُ شَيْءٌ

ترجمہ: اے اللہ میں اس شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے ساتھ کچھ بھی خیر ملا ہوا نہ ہو یعنی خالص شر ہو۔ (الخبر البخاری فی ارب المفرد ص ۹۹، حیاة الصحابہ ص ۳۲۷)

﴿۱۳۹﴾ بُرے خوابوں اور اپنے ساتھ شیطان کے کھیلنے سے اللہ کی پناہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَيِّئِ الْأَحْلَامِ وَأَسْتَجِيرُكَ مِنْ تَلَاعُبِ الشَّيْطَانِ فِي الْيَقَظَةِ وَالْمَنَامِ۔

ترجمہ: اے اللہ میں آپ کی برے خواب سے پناہ مانگتا ہوں اور نیند اور بیداری کی حالت میں شیطان کے کھیلنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ (الفتوحات الربانیہ ۱۹۲، ۲۰۶، الدعاء المسنون ص ۹۲)

﴿۱۴۰﴾ بے نیلے خوابوں سے اللہ کی پناہ

أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ مِنْ شَرِّ رُؤْيَا هَذِهِ أَنْ

تَنَّاوُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ .

ترجمہ : اے اللہ میں تیری پناہ لیتا ہوں تمام مخلوق کی برائی سے کوئی مجھ پر حملہ کرے یا مجھ پر زیادتی کرے، تجھ سے پناہ لینے والا غالب ہے، تیری تعریف بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی قابل عبادت نہیں سوائے تیرے ۔

(نزل الابرار ۱۲۲، اذکار ۸۲، الدعاء السنون ص ۲۸۲)

(۱۳۹)

رَاتٍ مِثْلُ بَرَأْنِي كَسَا تَهْ كَهْطَا نِي وَاللَّهِ كِي پَنَاهُ
اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ طَوَارِقِ هَذَا
الَّيْلِ اِلَّا طَارِقٌ يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ .

ترجمہ : اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں رات کے آنے والے سے مگر یہ کہ رات کو بھلائی سے آئے ۔ (مجمع الزوائد ۱۲۴/۱۰، رحمت الہی، الدعاء السنون ص ۲۴۶)

الحمد للہ یہ کتاب بعنوان ”اللہ کی پناہ“ ۲۳ ربیع الثانی ۱۴۲۹ھ مطابق ۲۸ اپریل ۲۰۰۸ء بروز پیر۔ اکولہ اجتماع سے واپسی پر بعد نماز عصر ٹرین میں مکمل ہوئی ۔
اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اس کتاب کو قبولیت بخشے (آمین)
اللہ کی رضا کا طالب : محمد یونس پانیپوری